

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Programme: B.Com. 6th Semester

Paper: Management Accounting

Assignment No. 2 (Unit 1 to 12) Jan 2022 Admitted Batch

Max Marks:10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ۔ کوئی دو سوالوں کے جواب دیں۔

1۔ نسبتوں کی تعریف کرتے ہوئے کاروبار میں استعمال چند اہم نسبتوں کو بیان کیجئے۔

2۔ حاشیائی لاگت سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔ 3۔ متغیر و مستقل لاگت کی تعریف کرتے ہوئے مثالوں کے ذریعہ وضاحت کیجئے۔

4۔ ذیل میں دئے گئے بیلنس شیٹ کی مدد سے فنڈ بہاؤ گوشوارہ Fund From Statement تیار کیجئے۔

Balance Sheet

Liabilities	2022	2023	Asset	2022	2023
Share Capital	2,00,000	4,00,000	Cash	50,000	70,000
Profit and Loss A/c	1,00,000	1,80,000	Bank	60,000	1,00,000
General Researve	60,000	1,00,000	Stock	1,00,000	1,50,000
Long Term Loan	1,00,000	2,00,000	Debtors	70,000	1,20,000
Creditors	20,000	1,20,000	Investments	60,000	2,00,000
Bills Payable	60,000	20,000	Machinery	1,00,000	3,00,000
Provision for Tax	50,000	80,000	Furniture	1,00,000	80,000
			Goodwill	1,00,000	80,000
	6,40,000	11,00,000		6,40,000	11,00,000

مطابقتیں:

- 1- دوران سال ٹیکس کے 1,00,000 روپے ادا کئے گئے۔
- 2- دوران سال حصص داروں کو 1,50,000 ڈیوڈنڈ ادا کئے گئے۔
- 3- دوران سال 1,00,000 روپے کی مشنری جس پر 30,000 روپے فرسودگی عائد کرنے کے بعد 40,000 روپے میں فروخت کیا گیا۔
- 4- دوران سال فرنیچر پر 10,000 روپے فرسودگی عائد کی جائے۔

حصہ دوم

(5 x 1 = 5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5- ذیل میں دئے گئے بیلنس شیٹ کی مدد سے نسبتیں محسوب کیجئے۔

Particulars	Amount	Particulars	Amount
Equity Capital	6,00,000	Building	2,00,000
10% Preference Capital	3,00,000	Machinery	2,50,000
Reserve and Surplus	1,00,000	Plant	2,50,000
Profit and Loss A/c	40,000	Furniture	2,80,000
Share Premium	20,000	Debtors	1,80,000
10% Debentures	4,00,000	Bills Receivable	2,00,000
5% Mortgage Loan	60,000	Stock	1,20,000
8% Mortgage Loan	60,000	Cash in Hand	1,20,000
Creditors	80,000	Cash at Bank	90,000
Bills Payable	80,000	Prepaid Expenses	5,000
Depreciation Fund	1,00,000	Preliminary Expenses	5,000
		Good will	1,40,000
	18,40,000		18,40,000

ذیل کی نسبتیں محسوب کیجئے۔

Absolute Cash Ratio(3

Quick Ratio(2

Current Ratio (1

Fixed Asset to Net Worth (6

Propretors Ratio (5

Debt Equity Ratio(4

6- دیا گیا ہے کہ فروخت Sale = 20,00,000 روپے

متغیر لاگت $V_c = 10,00,000$ روپے مستقل لاگت $FC = 4,00,000$ روپے
تب محسوب کیجئے

(2) نقطہ توازن (BEP)

PV Ratio (1)

(3) حاشیائی سلامتی (Margin of safety) $12,00,000$ روپے منافع کمانے کے لئے مقدار فروخت

(5) $30,00,000$ مقدار فروخت پر منافع کی مقدار (Desired sale to earn a profit Rs 12,00,000)

(Profit when Sale is 30,00,000)

7۔ انتظامی کھاتوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو بیان کیجئے۔

Assignment No. 3 (Unit 13 to 24)

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ۔ کوئی دو سوالوں کے جواب دیں۔

1۔ نقد بہاؤ گوشوارہ سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے۔

2۔ جان اینڈ کمپنی ایک شے کی تیاری کے دوران 40 روپے فی اکائی لاگت پاتی ہے۔ یہی شے بازار میں 33 روپے فی اکائی دستیاب ہے اور اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ سپلائی کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ اپنی رائے دیجئے کہ اس شے کو تیار کیا جائے یا خریداجائے۔ آپ اپنی رائے پیش کیجئے کہ سپلائر شے کی قیمت 30 روپے سے گھٹا کر 27.50 روپے کر دے۔ لاگت کی تفصیلات ذیل میں دی گئیں ہیں۔

روپے

Raw Material	مال	15
Direct Wages	راست مزدوری	10
Other Variable Expenses	دیگر متغیر اخراجات	5
Depreciation and Fixed Expenses	فرسودگی اور دیگر قائم اخراجات	10
		40

3۔ احمد اینڈ برادرز کی تفصیلات ذیل میں دی گئیں ہیں تقابلی میزانی گوشوارہ تیار کیجئے۔

Equity and Liabilities	31.12.22 روپے	31.12.23 روپے	Assets	31.12.22 روپے	31.12.23 روپے
1. Shareholders Funds:			1. Non-Current Assets:		
Share Capital	14,44,000	12,00,000	Plant and Machinery	26,00,000	20,00,000
Reserves	6,00,000	4,80,000	Goodwill	4,00,000	4,00,000
2. Non-Current Liabilities:		6,80,000	2. Current Assets		
Long Term Borrowings	10,20,000		Sundry Debtors	5,00,000	48,80,000
3. Current Liabilities:			Bank	40,000	80,000
Sundry Creditors	4,80,000	6,00,000			
	35,40,000	29,60,000		35,40,000	29,60,000

4۔ ذیل میں 50% پیداواری صلاحیت پر 5000 اکائیوں کی پیداواری لاگت کی تفصیلات دی گئی ہیں جس کے ذریعہ 65% اور 80% پیداوار پر

پیداواری لاگت اور منافع کی مقدار کو معلوم کیجئے۔ جبکہ قیمت فروخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

خام مال = 50 روپے فی اکائی

اجرتیں = 15 روپے فی اکائی

فیکٹری کے بالائی اخراجات = 10 روپے فی اکائی جس میں 50% مستقل اخراجات ہیں

انتظامی اخراجات = 10 روپے فی اکائی جس میں 70% مستقل اخراجات ہیں

85 کل پیداواری لاگت فی اکائی

15 منافع

100 قیمت فروخت

65% پر قیمت فروخت 98 روپے فی اکائی اور 80% پر 96 روپے فی اکائی ہوگی۔

حصہ دوم

(5 x 1 = 5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5۔ عارف کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ اپنے ریکارڈ سے درجہ ذیل معلومات فراہم کی ہیں۔

20 کلو Isphani تیار کرنے کے لیے درکار معیاری مال

Material	Quantity	Rate per kg
x	اکائیاں 16	روپے 12.00
y	اکائیاں 8	روپے 8.0

10 اپریل 2023 کے دوران 2000 کلوگرام Ispahani تیار کی گئی۔ مال کا حقیقی صرف یوں تھا۔

Material	Quantity	Rate per kg
x	اکائیاں 1500	روپے 14.00
y	اکائیاں 1000	روپے 10.00

تخصیص کیجئے: (a) لاگت کی نا اتفاقی (b) قیمت کی نا اتفاقی (c) مال کے استعمال کی نا اتفاقی

6۔ حسب ذیل کی مدد سے اپریل، مئی، جون 2022 میں تین مہینوں کا نقدی بجٹ (Cash Budget) تیار کیجئے۔

مہینے	فروخت	خریدی	اجرتیں	اخراجات
1 جنوری	80,000	45,000	20,000	5,000
2 فروری	1,00,000	40,000	18,000	6,000
3 مارچ	75,000	42,000	22,000	6,000
4 اپریل	90,000	50,000	24,000	7,000
5 مئی	85,000	45,000	20,000	6,000
6 جون	80,000	35,000	18,000	5,000

مطابقتیں (Adjustment):

- 10% نقد خریدی (Cash Purchase) اور 20% نقد فروخت (Cash Sale) کیا جائے گا۔
- ادھار فروخت پر وصولی کی مدت 1/2 آدھا مہینہ ہوگا (Collection from Debtors)۔
- ادھار خریدی پر ادائیگی کی مدت ایک ماہ ہوگی۔ Lag time for payment for creditors 1 month۔
- ہر ماہ -/500 روپے کرایہ ادا کیا جائیگا جو اخراجات کے زمرہ میں ملے ہوئے ہیں۔
- اجرتوں کی ادائیگی کی مدت 1/2 مہینہ ہے۔ 6) یکم اپریل 2002ء کو افتتاحی نقدی کامیزان 15,000 روپے ہوگا۔ کمپنی روزمرہ کے اخراجات کے لیے 15,000 روپے میزبان رکھی گی اس سے زائد رقم کو بینک میں ڈپازٹ (محفوظ) کیا جائے گا۔
- 7۔ بالائی مصارف کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بٹوارہ کی اساس کو بیان کیجئے۔